

SALTOC Project

Title: Islām aur 'aṣr-i-jadīd

Imprint: Na'ī Dillī: Muḥammad Hafīzuddīn

New Delhi: Zakir Husain Institute of Islamic Studies,  
Jamia Millia Islamia University

OCLC: 6727848

Volume 13, no. 1, January 1981

TOC Supplied By: Center for Research Libraries

# ISLAM AUR ASR-I-JADEED

Vol. XIII No. 1

January 1981

Zakir Husain Institute of Islamic Studies,

Jamia Millia Islamia, Jamia Nagar, New Delhi-110025

## کیا آپ کی روزانہ کی خوراک سے آپ کے بدن کو پوری قوت اور پورا فائدہ ملتا ہے؟

اپنی روزمرہ خوراک سے صحیح تغذیہ حاصل کرنا  
اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا نظام ہضم کتنا  
تھیک اور طاقتور ہے۔

سنکارا ہی ایک ایسا ٹانک ہے جس میں

طاقت دینے والے ضروری وٹامنوں اور معدنی

اجزاء کے ساتھ چھوٹی الائچی، لونگ، دھنیا،

دارچینی، تیز پات، تلسی وغیرہ جیسی چودہ جڑی

بوٹیاں شامل ہیں۔ اس مرکب سے آپ کے

نظام ہضم کو طاقت ملتی ہے اور آپ کا بدن

اس کی مدد سے آپ کی روزمرہ خوراک سے

صحیح تغذیہ اور بھرپور قوت حاصل کرتا ہے۔



HD-5949 AU

مکمل دوا

## سنکارا

ہر موسم اور ہر عمر میں  
سب کے لیے بے مثال ٹانک

## فہرست مضامین

- ۱- مسلمانوں کی اخلاقی حالت (اداریہ) ضیاء المحسن فاروقی ۵
- ۲- برنابا کی انجیل مولانا ضیاء الدین اصلاحی ۱۳
- ۳- قدیم و جدید کی کشمکش پروفیسر یوسف القرضاوی
- ۴- قرآن مجید کی خطاطی اور مسلمان ڈاکٹر لپونارڈ لبرانڈے ترجمہ: جناب محمد اسلم اصلاحی ۲۴
- ۵- اسلامی تعلیم میں سرمایہ کاری پروفیسر علی محمد خسرو ترجمہ: جناب شہاب الدین انصاری ۴۰
- ۶- تبصرہ ابن کثیر کورنخ (عربی) ڈاکٹر رشید الوحیدی ۵۸